

SCBPL/CS/024/2021

05 March 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting - Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited

Enclosed please find the notice of 15th Annual General Meeting (AGM) of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited to be held on Monday, 29 March 2021, at 04:00pm in Karachi (through online platform / facility) for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Further, the attached notice of AGM will be published in following newspapers "Business Recorder" (in English) and "Express Urdu" (in Urdu) on Monday, 08 March 2021.

Please communicate the information to TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,


Muddasir Ahmed
Director
Company Secretariat

Enclose: as above

STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited ('Bank') will be held on Monday, 29 March 2021 at 04:00 pm through online platform/facility to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Bank for the year ended 31 December 2020, along with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To consider the appointment of external auditors namely of M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants (who being eligible, have offered themselves for re-appointment), as Statutory Auditors of the Bank for the year 2021. The Board also seeks authority for the Board Audit Committee to negotiate and agree upon Auditors' remuneration subject to concurrence of the Board in the subsequent meeting.
3. To consider and approve final cash dividend @ 27.5% (i.e. Rs. 2.75 per share), as recommended by the Board of Directors for the year 2020.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To approve the remuneration paid to the Independent Directors and Non-Executive Directors (who are not group employees) of the Bank for the year ended 31 December 2020 in accordance with the Articles of Association of the Bank and in that connection to pass the following resolution, as ordinary resolution, with or without modification, addition or deletion:

"RESOLVED THAT the decision of the Board of Directors of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited to pay a fee of Rs. 13,250,000 during the year ended 31 December 2020 to the independent and non-executive members (who are not group employees) of the Board, in terms of their discretion under the Articles of Association of the Bank, be and is hereby confirmed and approved by the shareholders."

A statement of material facts under section 134 (3) of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid special business to be transacted in the said AGM is appended below.

C. OTHER BUSINESS

5. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Asif Iqbal Alam
Company Secretary

Karachi: 8 March 2021

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ ("بینک") کے حصص یافتگان کا پندرہواں سالانہ اجلاس عام 29 مارچ 2021ء بروز پیر، شام 04:00 بجے، بذریعہ آن لائن پلٹ فارم / سہولت درج ذیل کارروائی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

(الف) عمومی کارروائی

- i - 31 دسمبر 2020ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے بینک کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور ان کی توثیق۔
- ii - میسرز EY فورڈ رائڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (جنہوں نے اہل ہونے کے سبب پھر سے تقرری کی درخواست دی ہے) کی 2021ء کیلئے بطور سٹیچوری آڈیٹرز تقرری اور ان کے معاوضے کے تعین کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بات چیت اور فیصلہ کرنے کا اختیار دینا جو آئندہ بورڈ میٹنگ میں بورڈ کی رضامندی سے مشروط ہوگا۔
- iii - سال 2020ء کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 27.5% (یعنی 2.75 روپے فی حصص) نقد منافع کی ادائیگی پر غور اور منظور کرنا۔

(ب) خصوصی کارروائی

- iv - 31 دسمبر 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آڈیٹڈ آف ایسوسی ایشن کے تحت بینک کے خود مختار ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (جو گروپ ایمپلوائی نہیں ہیں) کو ادا کیے گئے معاوضے کی منظوری اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم یا بغیر ترمیم، اضافے یا اخراج بطور عمومی قرارداد منظور کرنا:

"قرار پایا کہ آڈیٹڈ آف ایسوسی ایشن کے تحت دی گئی صوابدید پر، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فیصلہ کہ بورڈ کے خود مختار ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (جو گروپ ایمپلوائی نہیں ہیں) کو 31 دسمبر 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے مبلغ -/13,250,000 روپے فیس ادا کرنے کو حصص یافتگان کی جانب سے توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134(3) کے تحت مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں عمل میں لائی جانے والی خصوصی کارروائی سے متعلق ضروری حقائق کی دستاویز درج ذیل منسلک ہے۔

(ج) دیگر کارروائی

- v - چیئر پرسن کی اجازت سے کوئی اور کارروائی عمل میں لانا۔

بجلم بورڈ

آصف اقبال عالم
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 8 مارچ 2021ء

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 22 March 2021 to 29 March 2021 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar by the close of business on 19 March 2021 will be treated in time.

2. Participation in AGM through online platform / facility:

We acknowledge and appreciate the tremendous efforts that everyone is putting in for protecting themselves and others from Covid-19. In view of current Covid-19 situation in the country during the second wave and practical difficulties in maintaining social distancing in public gathering, it is our combined responsibility to further enhance our efforts in fight against the pandemic for the safety of our shareholders, our staff and general public.

Pursuant to Securities and Exchange Commission of Pakistan's Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021, it has been decided by the Bank to continue with contingency planning measures and hold the 15th AGM through online platform/facility.

Accordingly, following arrangements have been made by the Bank to facilitate the participation of the shareholders in the AGM through online platform/facility, either in-person or through appointed proxies. Shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary Office, at least 24 hours before the time of AGM (i.e. before 04:00 p.m. on 28 March 2021) by providing following details at cosec.pk@sc.com

Folio/CDC Account No.	Name of Shareholders	CNIC No	Cell No.	Email Address

Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Bank will send the login details at their email addresses. On the AGM day, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone or computer devices from their home. Login facility will be opened 15 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting, after identification and verification process.

3. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at 19 March 2021 will be entitled to attend/participate in/vote at the AGM and be entitled to receive above stated cash dividends.

4. A member entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be valid, must be received by the Bank at its registered office marked for the attention of the office of the Company Secretary, not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.

5. Members are requested to notify change in their address, if any, to the Bank's Share Registrars, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Toll Free: 0800-CDCPL (23275). Fax: (021) 34326053. Email: info@cdcsrsl.com.

6. A. For Attending the Meeting:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

نوٹس:

1- بینک کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22 مارچ 2021ء سے لے کر 29 مارچ 2021ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 19 مارچ 2021ء کو کاروبار کے اختتام تک رجسٹرار کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصدیق کیے جائیں گے۔

2- سالانہ اجلاس عام میں آن لائن پلیٹ فارم/سہولت کے ذریعہ شرکت:

کوویڈ 19 سے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے تمام لوگ جوڑے پر دست کششیں کر رہے ہیں ہم بحیثیت بینک ان تمام کاوشوں کا اعتراف اور تعریف کرتے ہیں۔ تاہم، دوسری لہر کے دوران ملک میں کوویڈ 19 کی صورتحال اور عوامی اجتماعات میں معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھنے میں عملی مشکلات کے پیش نظر، ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حصص یافتگان، اپنے عملے اور عام عوام کی حفاظت کے لئے وبائی امراض کے خلاف جنگ میں اپنی کوششوں کو مزید بڑھائیں۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2021 کے سرکولر نمبر 6 مورخہ 3 مارچ 2021 کے مطابق بینک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہنگامی منصوبہ بندی کے اقدامات کو جاری رکھے گا اور اس سلسلے میں 15 پندرہویں سالانہ اجلاس عام کو بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

بینک کی جانب سے سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی بذریعہ آن لائن پلیٹ فارم شرکت (چاہے ذاتی طور پر یا مقررہ پراکسیوں کے ذریعہ) کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ cosec.pk@sc.com پر سکتی سیکرٹری آفس میں اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل (یعنی 28 مارچ 2021 کو شام 04:00 بجے سے پہلے) درج ذیل تفصیلات کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں۔

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	شیئرز ہولڈرز کا نام	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی کے بعد بینک لاگ ان کی تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر بھیجے گا۔ اجلاس عام کے دن شیئرز ہولڈرز اپنے کھسے اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر یا ٹیبلیٹ کے ذریعہ لاگ ان ہو سکیں گے اور اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ لاگ ان کی سہولت مینٹننگ کے وقت سے 15 منٹ قبل کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں۔

3- صرف وہ ممبران جن کے نام 19 مارچ 2021ء کو بینک کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے وہی اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، ووٹ دینے اور ڈیویڈنڈ لینے کے اہل ہوں گے۔

4- ایک ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو بطور نمائندہ اجلاس میں شرکت، بولنے، ووٹ ڈالنے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیز کو مؤثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں بنام کمپنی سیکرٹری اجلاس سے 48 گھنٹے قبل مکمل طور پر اسٹیپ شدہ، دستخط شدہ اور شواہد کے ساتھ وصول ہو جائیں۔ ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی نامزد کرنے کا مختار نہ ہوگا۔

5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں ہونے والی کسی تبدیلی سے فوری طور پر بینک کے شیئرز رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400، ٹول فری نمبر: CDCPL (23275)، 0800-فیکس: 34326053 (021)، ای میل ایڈریس: info@cdcsrsl.com پر مطلع کریں۔

6- (الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

i- افرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہوگا۔

ii- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مختار نامہ، نامزد کرنے والے کے دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا۔

(ب) پراکسیز کی نامزدگی کیلئے

i- افرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں انہیں اپنا پراکسی فارم درج بالا قواعد کے مطابق پُر کر کے پیش کرنا ہوگا۔

ii- پراکسی فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر لکھے ہوں۔

iii- پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی اور اصل مالک کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی منسلک کرنا ہوگی۔

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
 - v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with the proxy form to the Bank.
7. Members may inspect the minutes of the AGM held on 09 April 2020, in terms of Section 52 of the Companies Act, 2017, at the Bank's registered address.
8. In terms of Section 223 (7) of the Companies Act 2017, the Annual Report for the year ended 2020 will also be placed on the Bank's website simultaneously with the dispatch of the same to the members.

Statement under section 134 (3)

Statement for Item (4) to the Agenda

The meeting fee payable to the Independent Directors and Non-Executive Directors (who are not group employees) of the Bank was approved by the Board of Directors in terms of Article 60 of the Articles of Association of the Bank. This meeting fee requires approval of the shareholders in AGM in terms of paragraph C-2 of Regulation G-1 of Prudential Regulations for Corporate/Commercial Banking issued by the State Bank of Pakistan. The Independent Directors and Non-Executive Directors (who are not group employees) of the Bank are interested in the payment of fees and remaining members of the Board have no interest in the matter.

SHAREHOLDERS AWARENESS:

1. **E-Dividend Requirements:** In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2017, shareholders are advised to provide their Identification Number/Computerised National Identity Card (CNIC) Number and International Bank Account Number (IBAN) details, if they have not already done so, to our Share Registrar (if shares are held in physical form) at their above referred office address or to the respective Participants/Broker (if shares are held through CDS Account) latest by 19 March 2021. **Failing which may result in withholding of dividend payments of respective shareholders.**

2. **Tax Requirements:** The dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to the provisions of Finance Act, 2020, effective from 01 July 2020; the 'Filer' and 'Non-Filer' shareholders will pay tax on dividend income @ 15% and 30% respectively. The Filer status of shareholders will only be determined on the basis of latest available Active Taxpayers List (ATL) uploaded by the Federal Board of Revenue (FBR) on their website <http://www.fbr.gov.pk/>.

In case a Folio/CDS Account is jointly held, each joint-holder will be treated separately as Filer or Non-Filer and tax will be deducted on the gross dividend amount determined by bifurcating the shareholding of each joint-holder on equal proportions, except where shareholding proportion of joint-holders is pre-defined as per the records of Bank's Share Registrar and thus tax rates will be applied in line with respective proportions. Those shareholders, who are holding shares jointly, are requested to update/notify the shareholding proportions of principal and joint-holder(s) in writing to our Share Registrar latest by 19 March 2021 at their above referred office address.

In this regard, all shareholders, whose names are not entered into the ATL despite the fact that they are filers, are advised to make sure that: (i) Their names appear into the ATL before start of closed period (referred above), otherwise they will be treated as non-filers for tax deduction purpose, and (ii) A copy of their National Tax Number is submitted to their relevant Participant/CDC Investor Account Services or to our Share Registrar (in case of physical shareholding only) at their above referred office address.

Corporate shareholders are requested to provide of a copy of valid Income Tax Exemption Certificate issued by the concerned authority to your institution, which is compulsorily required to claim tax exemption in terms of clarification issued by FBR vide their letter C.No.1 (43) DG (WHT)/ 2008-Vol.11-66417-R, dated 12 May 2015. In case you are subject to any special tax rate, please also provide a copy of relevant certificate issued by the concerned authority. Relevant copies should reach our Share Registrar at their above-mentioned office address.

- iv) پر کسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت دکھانا ہوگا۔
- v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، تاحذ کرنے والے کے دستخط کے ہمراہ پر کسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانا ہوگا۔

- 7- کمپینز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 52 کے تحت ممبران بینک کے رجسٹرڈ پتے پر 9 اپریل 2020ء کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی روداد کا معائنہ کر سکتے ہیں۔
- 8- سیکشن 223(7) کے تحت سالانہ 2020ء کی سالانہ رپورٹ ممبرز کو تریل کے ساتھ بینک کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دی گئی ہے۔

سیکشن 134(3) کے تحت بیان

ایجنڈا برائے آئٹم (4)

بینک کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 60 کے تحت بورڈ کے خود مختار ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (جو گروپ ایسوسی ایشن نہیں ہیں) کو ادائیگی کے لئے بینک فیس کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظوری دی گئی۔ اس بینک فیس کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے پروڈیٹل ریگولیشنز برائے کارپوریٹ/کمرشل بینکنگ کے ریگولیشن G-1 کے تحت سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز سے منظوری لینا ضروری ہے۔ بینک کے خود مختار ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (جو گروپ ایسوسی ایشن نہیں ہیں) فیس کی ادائیگی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بورڈ کے باقی ممبرز کی معاملے میں دلچسپی نہیں ہے۔

حصص یافتگان (ممبران) کی آگاہی:

- 1- ای-ڈیویڈنڈ کی ضروریات: کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز 2017ء کی ہدایات کے تحت شیئر ہولڈرز اپنے شناختی نمبر/کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی) نمبر اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی این) کی تفصیلات فراہم کریں۔ اگر انہوں نے تفصیلات فراہم نہیں ہیں تو ہمارے شیئر رجسٹرار (اگر شیئر فزیکل فارم میں رکھے گئے ہیں) کو مذکورہ آفس ایڈریس یا متعلقہ پارٹیسپنٹ/بروکر (اگر شیئرز بذریعہ سی ڈی ایس اکاؤنٹ رکھے گئے ہیں) کو 19 مارچ 2021ء تک مہیا کریں۔ تا کا م کی صورت میں متعلقہ شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

- 2- ٹیکس معاملات: ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 اور فنانس ایکٹ 2018ء کی دفعات (یکم جولائی 2020ء سے مؤثر) کے مطابق ڈیویڈنڈ آمدن پر فائلر ممبران کیلئے شرح وہولڈنگ ٹیکس 15% جبکہ نان فائلر کیلئے 30% ہے۔ شیئر ہولڈرز کے فائلر ہونے کا تعین فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ <http://www.fbr.gov.pk> پر جاری کردہ آخری ایکٹیو ٹیکس بیئر لسٹ (ATL) کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کسی فائلر/سی ڈی ایس اکاؤنٹ کی مشترکہ ملکیت کی صورت میں ہر مشترکہ ہولڈر کو بطور فائلر یا نان فائلر علیحدہ طور پر جاننا اور ٹیکس کی کوئی ڈیویڈنڈ کی مجموعی رقم پر کی جائے گی جو کہ ممبران میں شیئر ہولڈنگ کے تناسب کو مساوی تقسیم کر کے کی جائیگی سوائے اس کے کہ شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل پہلے ہی بینک کے شیئر رجسٹرار کے ریکارڈ میں موجود ہو اس صورت میں ٹیکس کی شرح اس تناسب سے لاگو کی جائے گی۔ لہذا ایسے مشترکہ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ بالا پتے پر 19 مارچ 2021ء تک فراہم کر دیں۔

اس سلسلے میں وہ ممبران جن کے نام فائلر ہونے کے باوجود ATL میں موجود نہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ (i) ان کے نام مدت اختتام (مذکورہ بالا) سے قبل ATL میں موجود ہوں بصورت دیگر ٹیکس کی کوئی کیلئے نہیں نان فائلر سمجھا جائے گا اور (ii) اپنے نیٹلس نمبر کی ایک کاپی اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹ/سی ڈی ایس انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا ہمارے شیئر رجسٹرار (صرف فزیکل شیئر ہولڈنگ کی صورت میں) کو مذکورہ بالا پتے پر جمع کرائیں۔

کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جو ٹیکس سے استثناء کے دعویدار ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے ان کے ادارے کو جاری کیا گیا مؤثر ٹیکس سرٹیفکیٹ فراہم کریں جو کہ FBR کے لیٹر C.No.1 (43) DG (WHT)/ 2008-Vol.11-66417-R بتاریخ 12 مئی 2015 کے مطابق ٹیکس ایگزیمپشن کلم کیلئے ضروری ہے۔ اگر آپ خصوصی ٹیکس ریٹ کے تابع ہیں براہ مہربانی متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ کی نقل ہمارے شیئر رجسٹرار کو درج بالا پتے پر فراہم کریں۔